

برائے فوری اجراء

فائر ماسٹر پلان متنوع اور بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرے گا

برامپٹن، آن (16 ستمبر 2020) – آج برامپٹن سٹی کونسل نے [برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز \(BFES\) 2021-2025 فائر ماسٹر پلان](#) کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس میں برامپٹن میں موجودہ طور پر اور مستقبل میں آگ سے تحفظ کی مسلسل مؤثر اور قابل خدمات کو یقینی بنانے کے لیے 32 سفارشات شامل ہیں۔ BFES فائر ماسٹر پلان [2018 – 2022 کے دور کی کونسل کی ترجیحات](#) کے حصول میں کردار ادا کرے گا۔

کینیڈا کے دوسرے تیز ترین رفتار سے بڑھتے ہوئے شہر کے طور پر، برامپٹن منفرد ضروریات کا حامل ہے۔ BFES فائر ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے اندرونی و بیرونی اہم فریقین کی جانب سے معلومات فراہم کی گئیں، بشمول 2,000 سے زائد برامپٹن کے رہائشی، 200 سے زائد صف اول پر کام کرنے والا عملہ، سٹی کے کئی محکمے اور BFES کی انتظامی ٹیم۔ اس کے علاوہ، کمیونٹی میں خطرے کا ایک جامع جائزے، اسٹیشن کے مقام کے ایک تجدید شدہ مطالعے اور کئی قوانین کا بھی BFES فائر ماسٹر پلان پر اثر رہا۔

BFES فائر ماسٹر پلان تین مجموعی مرکزی خیالات کی رہنمائی میں چلتا ہے: محفوظ، کامیاب اور قابل استحکام۔ یہ مرکزی خیالات سفارشات اور متعلقہ اقدامات کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں، جنہیں نو مرکزی نقطوں کے گرد منظم کیا گیا ہے: ہنگامی ردعمل؛ آگ سے بچاؤ اور تعلیم؛ ہنگامی حالات کو منظم کرنا؛ کمیونٹی میں حفاظت؛ انصاف اور شمولیت؛ ٹیکنالوجی کی جدت؛ طاقتور افرادی قوت؛ اچھی انتظامیہ؛ اور ماحولیاتی استحکام۔

منصوبے میں سے کلیدی اقدامات میں شامل ہیں:

- سٹی کی بڑھوتی کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے تین نئے فائر اسٹیشن بنانا، جنہیں اگلے دس سالوں میں تعمیر کیا جائے گا؛
- زیادہ خطرے والی جگہوں کی قانون سے پابندی کا رواج پیدا کرنے کے لیے زیادہ اونچی، کم اونچی اور مخصوص صنعتی جگہوں کی معمول کی جانچ کا اضافہ شدہ پروگرام؛
- ایسی جگہوں کی پیش گوئی کرنے، جہاں آگ لگنے کا زیادہ خطرہ ہو، کے لیے نئی مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنا، تاکہ آگ لگنے کے امکان اور شدت کو کم کرنے کے لیے فعال ہدفی جانچیں کی جا سکیں؛
- خدمات حاصل کرنے والے کمیونٹی کی بہتر عکاسی کرنے کے لیے بھرتی کے پرجدت طریقہ ہائے کار نافذ کرنے پر مضبوط توجہ کے ساتھ محکمے کی تنوع، انصاف اور شمولیت کی کوششوں کو بڑھانا۔

آگ سے تحفظ کی خدمات کی فراہمی کے بہترین ممکن درجے کو یقینی بنانے کے لیے BFES فائر ماسٹر پلان وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ مکمل BFES فائر ماسٹر پلان پڑھنے کے لیے، www.bramptonfire.com پر جائیں۔

اقتباسات

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ایک رہنماء، پرجدت فائر سروس ہے اور BFES فائر ماسٹر پلان ہمارے بڑھتے ہوئے اور زبردست طور پر متنوع شہر کی موجودہ اور مستقبل کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ BFES فائر ماسٹر پلان کی تیاری کے ساتھ، ہماری ٹیم اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھ سکتی ہے، کہ برامپٹن ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر بیو اور ہنگامی حالات کو منظم کرنے اور ردعمل میں بہترین کارکردگی دکھا سکے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم برامپٹن کو ایک صحت بخش اور محفوظ کمیونٹی بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ BFES فائر ماسٹر پلان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے شہریوں کو ابھی اور مستقبل میں محفوظ رکھنے کے لیے ایک اچھی طرح منصوبہ بند طریقہ کار ہو۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"جبکہ ہمارا متنوع شہر بڑھ رہا ہے، ہماری ٹیم کو بھی مسلسل اپنا جائزہ لینا ہو گا اور بڑھنا ہو گا، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم مستقبل کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا BFES فائر ماسٹر پلان اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ مجھے اس جامع منصوبے پر ہونے والے کام پر فخر ہے اور مجھے خاص طور پر ان پہلی فائر سروسز میں سے ایک ہونے پر فخر ہے، جس نے ایک ایسی ٹیم بنانے کا عزم کیا ہے، جو اس متنوع کمیونٹی کی عکاسی کرتی ہو، جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔"

- بل بوائز، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

"ہم ہمیشہ خدمات کی فراہمی میں بہترین کارکردگی کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا شہر تیزی سے بڑھ رہا ہے، BFES فائر ماسٹر پلان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم برامپٹن میں رہنے، کام کرنے، پڑھنے اور کھیلنے والے لوگوں کے لیے ترقی پسند فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز فراہم کر کے اس بڑھوتری میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہوں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca